

# Psa

## Chapter 100

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	מִזְמוֹר	לְתוֹרָה	הָרִיעוּ	לַיהוָה	כָּל-הָאָרֶץ:
	مزمور	شکر-گزارى-کے-لیے	خوشی-کی-آوازیں-لگاؤ	یہوواہ-کے-لیے	ساری زمین
	<a href="#">H4210</a>	<a href="#">H8426</a>	<a href="#">H7321</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0776</a>

کرو!سرائی مدح کی رب کر لگا نعرے کے خوشی دنیا، پوری اے زبور۔ لے کے قربانی کی شکرگزارى

2	עֲבָדוּ	אֶת-	יְהוָה	בְּשִׂמְחָה	כָּאִו	לְפָנָיו	בְּרִנָּה:
	خدمت-کرو	کی	یہوواہ-کی	خوشی-سے	اُو	اُس-کے-حضور	خوشی-کے-گیتوں-سے
	<a href="#">H5647</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8057</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H7445</a>

اُو!حضور کے اُس ہوئے مناتے جشن کرو، عبادت کی رب سے خوشی

3	דִּעוּ	כִּי-	יְהוָה	הוּא	אֱלֹהִים	הוּא-	עֲשֵׂנוּ	אִלָּא]	(וְלוֹ) אֲנַחְנוּ
	جان-لو	کہ	یہوواہ	وہی	خدا-ہے	وہی	بمیں-بنایا	اور-نہیں	اور-ہم-اُسی-کے-ہیں
	<a href="#">H3045</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H0587</a>

اُس-کی-قوم-ہیں اور-بھیڑیں-ہیں اُس-کی-چراگاہ-کی  
[H4830](#) [H6629](#)

بھیڑیں-کی چراگاہ کی اُس اور قوم کی اُس ہیں، کے اُس ہم اور کیا، خلق ہمیں نے اُسی ہے۔ خدا ہی کہ لو جان

4	כָּאִו	בְּתוֹרָה	חֲצִרְתָּיו	בְּתִהְלָה	הוֹדוּ-	לוֹ	בְּרָכוּ
	داخل-ہو	شکر-گزارى-سے	اُس-کے-صحنوں-میں	حمد-سے	شکر-کرو	اُس-کا	مبارک-کہو
	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H8426</a>		<a href="#">H8416</a>	<a href="#">H3034</a>		<a href="#">H1288</a>

شکو:

اُس-کے-نام-کو  
[H8034](#)

کرو!تمجید کی نام کے اُس کرو، شکر کا اُس ہو۔ حاضر میں بارگاہوں کی اُس ہوئے کرتے ستائش ہو، داخل میں دروازوں کے اُس ہوئے کرتے شکر

5	כִּי-	טוֹב	יְהוָה	לְעוֹלָם	חֲסִדוֹ	וְעַד-	דָּר	וְדָר	אֲמוֹנָתוֹ:
	کیونکہ	بھلا-ہے	یہوواہ	بمیشہ-رہے-گی	اُس-کی-شفقت	اور-تک	پشت-میں	پشت	اُس-کی-وفاداری
			<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5769</a>		<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H0530</a>

ہے۔ قائم پشت در پشت وفاداری کی اُس اور ہے، ابدی شفقت کی اُس ہے۔ بھلا رب کیونکہ